



... 5 میں سے 3 منافرت پر مبنی جرائم کی اطلاع پولیس کو نہیں دی جاتی ہے۔ کسی بھی فرد کے ساتھ اس بنیاد پر زیادتی نہیں کی جانی چاہئے کہ وہ کون ہے۔ خاموش رہ کر تکلیف برداشت نہ کریں...

میں منافرت پر مبنی کسی جرم کی رپورٹ کس طرح کروں؟

آپ کسی بھی جرم کی رپورٹ مندرجہ ذیل کسی بھی طریقہ سے رازداری کے ساتھ کر سکتے / سکتی ہیں:

کسی ہنگامی حالت میں 999 پر کال کریں

غیر ہنگامی حالات کے لئے 101 پر کال کریں

www.report-it.org.uk پر آن لائن رپورٹ کریں

پولیس اسٹیشن میں کال کریں یا سڑک پر موجود پولیس افسران کو مخاطب کریں

آپ کچھ بھی ہوں یہ
جرم نہیں ہے:

مگر منافرت جرم ہے

آپ پولیس سے کس چیز کی توقع کر سکتے / سکتی ہیں؟

منافرت پر مبنی جرم کی تمام رپورٹوں کو پولیس کا رسپانس حاصل ہوگا۔

ہو سکتا ہے کہ ہم فوراً رسپانڈ کرنے کے قابل نہ ہوں، مگر ہم تمام رپورٹوں پر کارروائی ضرور کریں گے۔



منافرت پر مبنی جرائم کی مثالیں

کسی بھی نوعیت کا جرم منافرت پر مبنی جرم ہو سکتا ہے۔ مثالوں میں شامل ہیں:

- جسمانی حملے
- جائیداد کو نقصان
- جارحانہ گریفٹی
- آگ زنی
- حملہ کی دھمکیاں
- جارحانہ خطوط
- ناروا یا فحش ٹیلی فون کالیں
- سماج مخالف سلوک اور دھونس چمانا
- جارحانہ زبان اور ہراسانی



منافرت پر مبنی جرم کیا ہے؟

منافرت پر مبنی جرم کوئی بھی ایسا مجرمانہ فعل ہے جس کو جرم کا شکار شخص یا کوئی بھی دیگر شخص یہ تصور کرے کہ اس کی وجہ کوئی بھی ایسی زیادتی یا تعصب ہے جو کسی شخص کی درج ذیل خصوصیات کی وجہ سے ہے:

- نسل (بشمول قومیت، قومی بنیاد، ثقافتی بنیاد، نسل اور رنگ)
- مذہب
- جنسی میلان
- معذوری
- جنس تبدیل کرنے والا (ٹرانس جینڈر)
- انفرادی خصوصیت جو کسی شخص کی ظاہری شکل و صورت کو مختلف بناتی ہے

